

تمام رہائشیوں کو دعوت عام! یہ برامپٹن میں موسم بہار کی صفائی کا وقت ہے

اسپرنگ کلین اپ، ڈونٹ بی ٹریشی! مہم اور اسٹریٹ سویپنگ پروگرام کا آغاز مورخہ 1 اپریل سے ہو گیا ہے۔

برامپٹن، آن (1 اپریل 2019) - برف کے پگھلنے اور درجہ حرارت میں اضافہ کے ساتھ ہی موسم بہار کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ چند مہینوں سے چھپا ہوا کوڑا کرکٹ اب سامنے آ گیا ہے۔ اب چونکہ اگلے ہفتوں کے دوران سٹی کا عملہ بھی پارکس اور گلیوں کی صفائی کے کام پر موجود ہو گا مگر موسم بہار کی اس صفائی مہم میں حصہ لینا ہماری بھی ذمہ داری ہے۔

موسم بہار کی صفائی ستھرائی: 1 تا 30 اپریل

شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ 1 تا 30 اپریل تک جاری رہنے والی اس سالانہ صفائی مہم کے دوران اپنی جائیدادوں، پڑوس اور مقامی پارکس کی صفائی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

آپ رضاکارانہ طور پر اکیلے بھی صفائی کر سکتے ہیں یا صفائی کے لیے منتظم شدہ دنوں میں سے کسی ایک میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تمام مطلوبہ سامان فراہم کیا جائے گا۔ تقریبات کا مکمل شیڈول دیکھنے اور حصہ لینے کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے brampton.ca/springcleanup ملاحظہ کریں۔

ڈونٹ بی ٹریشی!

موسم بہار کی صفائی ستھرائی کے پروگرام کی معاونت کے لیے سٹی اپنی ڈونٹ بی ٹریشی! مہم کا آغاز کر رہا ہے جس کا مقصد کوڑا کرکٹ پھیلانے کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا، کوڑا کرکٹ کو موزوں طور پر ٹھکانے لگانا اور اپنے شہر میں کوڑا کرکٹ کی مقدار میں کمی لانا ہے۔

کوڑا کرکٹ کے انسانی صحت، جنگلی حیات اور قدرتی ماحول پر پڑنے والے مضر اثرات کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات میں کمی لانے کی بابت برامپٹن کو صاف ستھرا اور انسان دوست بنانے کے حوالے سے سٹی کی جانب سے پہلے سے جاری شدہ مہم کا ایک تسلسل ہے۔ ڈونٹ بی ٹریشی! مہم اکتوبر کے مہینے میں موسم خزاں کے صفائی ستھرائی کے پروگرام تک چلتی رہے گی۔

اس مہم کے ایک حصے کے طور پر، سٹی اپنے سکولوں میں بھی کوڑا کرکٹ صاف کرنے کا ایک چیلنج منعقد کر رہا ہے۔ اپریل کے مہینے میں سب سے زیادہ صفائیاں کرنے والی اور اپنے کام کی تصاویر کو [@BramGrowGreen](https://www.instagram.com/BramGrowGreen) پر ٹویٹ کرنے والی کلاس کو شجراکاری کی ایک تقریب میں مدعو کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں brampton.ca/growgreen۔

گلیوں میں جھاڑو لگانا

سٹی کا عملہ بہت جلد اس ریت اور کچرے کو صاف کرنا شروع کر دے گا جو پورے موسم سرما کے دوران جمع ہو جاتا ہے۔ موسم کی صورت حال کے مطابق، جھاڑو لگانے کا یہ کام مئی کے مہینے کے اختتام تک جاری رہے گا۔ مزید جاننے کے لیے، brampton.ca/streetsweeping پر جائیں

اقتباس

"اگر کافی کا ایک کپ کسی پارک کے بینچ پر رہ گیا ہو یا کسی گاڑی کے شیشے سے ایک سگریٹ بھی باہر پھینک دیا گیا ہو، تو یہ سب کچرا بہت نقصان کرتا ہے اور ہمارے ماحول، ہماری جیبوں اور کمیونٹی کے بارے میں ہماری سوچ پر شدید اثرات مرتب کرتا ہے۔ اپنے شہر کی حفاظت کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے تاکہ یہ شہر تمام لوگوں کے رہنے کے لیے ایک صاف ستھرا اور ماحول دوست شہر بن جائے۔ اور اس کام کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی موجود ہوں، وہاں کچرے کو ویسٹ بن کے اندر ہی پھینکیں۔ صفائی کے حوالے سے اس سال موسم بہار کے دوران منعقد ہونے والی ترغیبات، فرق پیدا کرنے کے لیے ہر شخص کی شمولیت کا ایک اچھا طریقہ ہے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں www.brampton.ca یا ہمیں [ٹوئٹر](mailto:311@brampton.ca)، [فیس بک](https://www.facebook.com/brampton)، اور [انسٹاگرام](https://www.instagram.com/brampton) پر فالو کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca